

ابتدائی فارسی زبان سکھانے والی مشہور درسی کتاب

تیسیر المبتدی

جسے

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی مخانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے
حضرت مولانا محمد عبد اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمایا

مکتبہ اقبالی

شعبہ نشر و اشاعت

برداہری گرعلی مہر بنیل تریست (مہشت ۲)
کراچی پاکستان

ابتدائی فارسی زبان سکھانے والی مشہور درسی کتاب

تيسیر المبتدئی

جیگان

جسے

حکیم الافت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے
حضرت مولانا محمد عبد اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمایا



شعبہ نشر و اشاعت

برہم پور مولیٰ چینہ پبلیکیشنز (جہشی)
کراچی پاکستان

کتاب کا نام : تیسراہ المبدی
 مؤلف : حضرت مولانا محمد عبید اللہ بن گوہی رحمۃ اللہ علیہ
 تعداد صفحات : ۲۸
 قیمت برائے قارئین : = ۲۰ روپے
 سن اشاعت : ۱۴۳۳ھ / ۱۹۷۵ء
 ناشر : مکتبۃ البشیر

چودھری محمد علی چیریٹھیل ٹرست (رجسٹرڈ)
 Z-3، اوور سیزرنگلوز، گلستان جوہر، کراچی۔ پاکستان
 +92-21-34541739 : فون نمبر
 +92-21-4023113 : فیکس نمبر
 www.maktaba-tul-bushra.com.pk : ویب سائٹ
 www.ibnabbasaisha.edu.pk
 al-bushra@cyber.net.pk : ای میل
 +92-321-2196170 : مکتبۃ البشری، کراچی۔ پاکستان
 مکتبۃ الحرمین، اردو بازار، لاہور۔ پاکستان
 +92-321-4399313
 +92-42-7124656, 7223210 : المصباح، ۱۶۔ اردو بازار، لاہور۔
 +92-51-5773341, 5557926 : بک لینڈ، شی پلازاہ کالج روڈ، راولپنڈی۔
 +92-91-2567539 : دارالإِحْلَاص، نزد قصہ خوانی بازار، پشاور۔ پاکستان
 +92-91-2567539 : مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ۔

اور تمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

باب اول

در صرف فارسی

حرکت: زر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔

متحرک: جس حرف پر حرکت ہو۔

ضمہ: پیش۔

فتحہ: زمر۔

کسرہ: زیر۔

مضموم: جس حرف پر پیش ہو۔

مفتوح: جس حرف پر زر ہو۔

مکسور: جس حرف کے نیچے زیر ہو۔

واو معروف: وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھی جائے، جیسے:
واو "نور" کا۔

واو مجہول: وہ واو جس سے پہلے ضمہ ہو اور خوب ظاہر ہو کرنہ پڑھی جائے، جیسے: واو
"کور"^(۱) کا۔

^(۱) یا جیسے: واو "شور" کا۔

یاۓ معروف: وہ "یاء" جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر پڑھی جائے، جیسے: "یاء" "نبی" کی۔

یاۓ مجبول: وہ "یاء" جس سے پہلے کسرہ ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے، جیسے: "یاء" "بڑے" کی۔

کلمہ کی اقسام

کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں: ۱۔ اسم۔ ۲۔ فعل۔ ۳۔ حرف۔ اسم: وہ ہے جس کے معنی میں زمانہ نہ پایا جائے، اور اس کے معنی سمجھ میں آسکیں، جیسے: زید، عمر، بگر۔

فعل: وہ ہے جس کے معنی میں زمانہ پایا جائے، اور اس کے معنی سمجھ میں آسکیں، جیسے: آیا، کھایا، سویا۔

حرف: وہ ہے کہ دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آسکیں، جیسے: میں، سے، کو۔

زمانے

تین ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔

ماضی: گزرا ہوا زمانہ۔ حال: موجودہ زمانہ۔ مستقبل: آنے والا زمانہ۔

واحد: ایک، جمع: ایک سے زیادہ۔

غائب: جو موجود نہ ہو۔ حاضر: جو سامنے موجود ہو۔ متکلم: خود بولنے والا۔

صیغہ: لفظ کو کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں چھ صیغے ہیں۔

- ۱۔ واحد غائب ۲۔ جمع غائب ۳۔ واحد حاضر ۴۔ جمع حاضر ۵۔ واحد متکلم
 ۶۔ جمع متکلم^(۱)

سوالات

ان جملوں میں یہ بتاؤ کہ کون الفاظ اسم ہے، کون حرف اور کون سا فعل؟
 ۱۔ خالد گھر میں گیا۔ ۲۔ عمر و مسجد میں ہے۔ ۳۔ زید دہلی سے آیا ہے۔
 ۴۔ بکر آیا تھا۔ ۵۔ میں لاہور جاؤں گا۔

فعل کی اقسام

فعل ماضی: جس کے معنی میں گذر اہوازمانہ پایا جائے، جیسے "لایا"۔
 فعل ماضی کی چھ قسمیں ہیں:

- ۱۔ ماضی مطلق ۲۔ ماضی قریب ۳۔ ماضی بعید ۴۔ ماضی استراری
 ۵۔ ماضی احتمالی ۶۔ ماضی تمنائی۔

ماضی مطلق: جس سے کیا ہوا کام معلوم ہو، جیسے: آیا۔

ماضی قریب: جس سے تھوڑی دیر کا کیا ہوا کام معلوم ہو، جیسے: آیا ہے۔

ماضی بعید: جس سے بہت مدت کا کیا ہوا کام معلوم ہو، جیسے: آیا تھا۔

ماضی استراری: جس سے گذرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا تکرار^(۲) اور تسلی
 معلوم ہو، جیسے: آتا تھا۔

ماضی احتمالی: جس سے کیے ہوئے کام میں شک معلوم ہو، جیسے: آیا ہو گا۔

^(۱) فارسی میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، اور مذکروں مذکور کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔

^(۲) بار بار ہونا۔

ماضی تمنائی: جس سے گذرے ہوئے زمانہ کے کسی کام کی آرزو معلوم ہو، جیسے: کیا اچھا ہوتا کہ وہ آتا۔

مضارع: وہ فعل ہے جس کے معنی میں زمانہ موجودہ، اور آئندہ دونوں پائے جائیں، جیسے: لائے اور کہے^(۱)۔

حال: وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، جیسے: آتا ہے۔

مستقبل: وہ فعل ہے جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے: لائے گا۔

امر: وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب ہو، جیسے: مار، یا کھڑا ہو۔

نهی: وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی طلب ہو، جیسے: مت مار، مت کھڑا ہو۔

سوالات

ان جملوں میں صیغہ اور زمانے بتاؤ۔

۱۔ زید کے بھائی آگئے ہیں۔		
۲۔ تم کب آئے۔		
۳۔ تم نے غالباً لکھ لیا ہو گا۔		
۴۔ ہم نے بگر سے کہا تم پڑھتے تو اچھا تھا۔		
۵۔ عمر آج آئے گا۔		
۶۔ زید پڑھتا ہے۔		
۷۔ اگر بگر پڑھتا تو اچھا تھا۔		
۸۔ میں لکھتا ہو گا۔		
۹۔ پڑھ۔		
۱۰۔ کھلیل مت۔		

(۱) مثلاً باپ کہے اور بیٹا سنے۔

فارسی کے اہم مصادر اور مضارع

چونکہ مصدر مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں، اس لیے ہر مصدر کے ساتھ اس کے مضارع کا صیغہ واحد غائب لکھا جاتا ہے۔

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
آرامد	آرام پانا	آرامیدن		الف	
آزارد	ستانا	آزاریدن	آخذ-آخند	تلوار کھینچنا	آختن
افشاند	جھلنا، چھڑکنا	افشاندن	آزماید	آزمانا	آزمودن
افسرد	نچوڑنا	افسردن	آشوبد	فریفہتہ ہونا	آشو فتن
آگند	بھرنا	آگندن	آشوبد	برہم ہونا	آشوبیدن
آماسد	سو جنا	آماسیدن	آغازد	شرع کرنا	آغازیدن
آمرزد	بخشا	آمرزیدن	آغازد	ملانا- گوندھنا	آغشتن
آموزو	سیکھنا، سکھانا	آموختن		بلند کرنا	افرا ختن { افرازیدن }
انبارد	پاشنا	انباردن { انپاشتن }	افرازد		
اندازد	ڈالنا	انداختن { اندازیدن }	آفرینید	پیدا کرنا	آفریدن
انداید	لپیٹنا، ملخ	اندوون { اندازیدن }	افسرد	ٹھھڑنا، بچانا	افردن
	کرنا		ارزو	پکناء، بر ابر ہونا	از زیدن
			آروغند	ڈکار لینا	آروغیدن
			آزارد	آزر دہ ہونا	آزر دن

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	مضارع	معنی مصدر	مصدر
انگارد	جانا	{ انگاشتن انگاردن	آساید	آرام پانا	{ آسودن آسامیدن	
آورد	لانا	آوردن	آشامد	پینا	آشامیدن	
آورزو	لشکانا- لپٹنا	آویختن	افتد	گرپٹنا	اقتاون	
اگلند	چھیکانا- ڈالانا	اگلدن	اوفتدر	اتفاق پڑنا	افقادن	
آلائید	{ آلو دہ ہونا آلودن	{ آلو دن آلائیدن	افروزد	روشن کرنا	{ افروختن افروزیدن	
آید	آنا	آمدن	افزاید	زیادہ کرنا	{ افزودن افزائیدن	
انگیزد	امتحانا	انگیختن				
آوردو	بلند کرنا	انگیزیدن				
آہیزد	کھینچنا	{ آہیختن آہیزیدن	آماید	بھرنا	{ آمودن آمامیدن	
لستد	{ کھڑے ہونا ٹھہرنا	{ ایستادن ایستادن	انجامد		{ آماون آمیختن	
	ب		اندوزد		{ آندوختن اندوزیدن	
برگشند	اکھڑنا	برکندن	اندیشد	جمع کرنا	{ آندیشیدن اندیشیدن	
				سوچنا		

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
بُرُد	کاشنا	بُریدن	بارد	برستا	باریدن
بُخشد	بُخخنا- دینا	بُخشیدن	باشد	بنستا	بافتن
بُود	ہونا	بُودن			بافیدن
بُوید	سوگھنا	بوسیدن	برآید	لکنا	برآمدن
	پ			روشن کرنا	برگردان
پارد	اڑنا، پھاڑنا، ٹکڑے کرنا	پاریدن	بردارد	اٹھانا	برداشتن
پالاید	صف کرنا	پالوون پالاسیدن	برید	بھوننا	برشتن
پاید	دیر تک رہنا	پاسیدن	بندو	رحم کرنا	بخششانیدن
پُدرود	نکال دینا، ہائکنا	پُدرُون مشغول ہونا	بوسد	چومنا	بخشون
پُدازد	خالی کرنا	پُدازیدن	بیزد	چھاننا	میختن
				کھینا- ہارنا	باختن
					بازیدن
پُرسد	پوچھنا	پُرسیدن	بالد	بڑھنا	بالیدن
پُردوہد	ڈھونڈنا	پُردوہیدن	برآورد	نکالنا	برآوردن
پُسند	پسند کرنا	پسندیدن	برخیزد	اٹھنا	برخاستن
پُندو	صیحت کرنا	پنديدن	بَرَد	لے جانا	بُردن

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
			ت	پھیرنا، پیٹنا	پچیدن
تابد	{ پھیرنا چمکنا بل دینا،	تابیدن	پیچہ پیکاید	ناپنا	پیغودن
	مر وڑنا	تافتان	پاشد	چھڑکنا	پاشیدن
تپید	ترپنا، گرم ہونا	تپیدن	پالد	ڈھونڈنا	پالیدن
ترواد	{ رُستنا میکنا	ترا بیدن	پزو	پکانا	پختن
	تراویدن	تراویدن	پنیرد	قبول کرنا	پذیر فتن
ترقد	پھٹنا، چھٹنا	ترقیدن	پرستد	پوجنا	پرستیدن
ترد	کھچنا	ترریدن	پرود	اُرنا	پریدن
تند	تُنا	تتپیدن	پروارو	پالنا	پروردان
تازو	{ دوڑنا، دوڑانا حملہ کرنا	تا ختن	پندارو	جاننا، بو جھنا	پنداشتن
	تازیدن	تازیدن	پوشد	{ ڈھانپنا، پہننا	پوشیدن
تراشد	چھیلنا	تر اشیدن	پیراید	سنوارنا	پیراستن
ترسد	ڈُرنا	تر سیدن	پویید	دوڑنا	پوئیدن
ترنجد	{ گچک پُرنا آزرو دہ ہونا	ترنجیدن	پیوند	ملنا، ملانا	پیوستن
تفتد	پُنا	تفتیدن	پیزد	جوڑنا	پیوندیدن
				لپیٹنا، پھیرنا	پیچختن

مصدر	معنی مصدر	مصدر	مضارع	مصدر	معنی مصدر	مضارع	مصدر
توانستن	سکنا، طاقت	تواند	چلیدن	چلدا	چلند	چندا	چیند
جستن	دھونڈنا	جوید	خریدن	کھجلانا	خارد	کھجلانا	خراشد
جوئیدن	جتنگا	جنگد	خرشیدن	چھیلنا	خراسد	چھیلنا	خروشد
جنگیدن	لڑنا	جنبد	خرشید	شور کرنا	خزد	گھنا	خزد
جنبیدن	لہنا	جوشد	خاستن	خزیدن	خاید	اٹھنا	خیزد
جوشیدن	کوڈنا	جمد	خیستن	خاید	چبا	چبا	خرامد
جهیدن	چڑنا	چخد	خاید	خاید	ٹھلنا	ٹھلنا	خراد
جستن	چپکنا	چسپد	خریدن	مول لینا	خریدن	مول لینا	خرد
چپیدن	چپکنا	چکد	خشن	زخمی کرنا	خشن	زخمی کرنا	خسته
چکیدن	ٹھلنا	چمد	خمن	زخمی ہونا	چرد	سونا	خسپد
چمیدن	چرنا	چپد	خُضن	خُضن	چپد	سونا	خفتہ
چشیدن	چکھنا						

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
دُرْفَشَد	کانپنا	دُرْفَشِيدَن	خوابد	سونا	خواهیدن
دُزْدَو	چُرانا	دُزْدِيدَن	خَمُوشَد	چُبَرَهْنا	خوشیدن
دارد	رکھنا	داشْتَن	خَنَدَد	ہنسنا	خندیدن
دِرَايَد	آواز کرنا	درَايَيدَن	خواند	پڑھنا، بلانا	خواندن
دُرْوَد	کھیت کاشنا	{ دُرْوَدَن دُرْوَیدَن }	خوشد	{ سوکھنا، خشک ہونا }	خوشیدن
درود	پھارنا	درِیدَن	خَسَد	خُم دینا	خییدن
وَلَد	(⁽¹⁾ دَلَنا)	دلِیدَن	خَلَد	چھنا	خلیدن
پھوٹکنا، جمنا	پھوٹکنا، جمنا	دمِیدَن	خَمَد	جھکنا	خمیدن
	لٹکنا، گپ مارنا		خواهد	چاہنا	خواستن
دوشد	دوہنا	دوشِيدَن	خورد	کھانا	خوردن
پینَد	دیکھنا	دِیدَن	خَسَد	بھیگنا	خیسیدن
دوزد	سیننا	{ دوختن دوزِیدَن }	دَهْ	دینا	دادن
دَوَد	دوڑنا	دُوَيِیدَن	داند	جاننا	دانستن
		دُرْخَشَد		چمکنا	دُرْخَشِيدَن

مضارع	معنى مصدر	مصدر	مضارع	معنى مصدر	مصدر
رید	کاتنا	{ رشتن رسیدن}	رائد	ہانکنا، چلانا	راندن
روود	جانا، چلنا	رفتن	رزد	رنگنا	رزیدن
رمد	بھائنا	رمیدن	رہند	چھوٹنا	{ رستن رهیدن}
رندو	رنده کرنا	رندیدن	رسد	پھینچنا	{ رسیدن رفتن}
ز		{ زادن زاںیدن}	روبد	چھڑا و دینا	{ رویدن رویدن}
زاید	جننا	زدن	رجد	آزر رده ہونا	رجیدن
زند	مارنا	زدن	رسد	{ گرانا انڈیلنا}	{ ریختن رسزیدن}
زوبد	{ رسنا، بچہ پیدا ہونا}	زویدن	رسیتن	ریستن	{ ریدن ریدن}
زید	جینا	زیستن	ریید، ریند	گھنا	{ ریستن ریستن}
زارد	رونما	زاریدن	رباید	لے بھائنا	رَبودن
زواید	{ کھرچنا صف کرنا}	{ رُذودن زوںیدن}	روید	اُننا	{ رستن رسیدن}
زیبد	زیب دینا	نسیبدن			

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
ساید	{ پینا گھنا	سائیدن	ژ	بکھرنا	ژولیدن
ستاید	تعریف کرنا	{ سُتُودن سِتاَیدن	ژولد ژاژد	بیهوده بکنا	ژاژیدن
ستیرید		ستیریدن		س	
سراید	لڑنا	{ سراییدن سُرُودن	سازد	{ موافق کرنا بنانا	ساختن
سریشد	کانا	سرشتن	پسپرد	سونپنا	پسپردان
سزو	گوندھنا	سَزیدن	پسپرد	{ پامال کرنا راه چنان	پسپردان
سگالد	لائق ہونا	سِگالیدن		{ مونڈنا چھیلنا	
سجد	اندیشه کرنا	سجدیدن	شُشُرُد		ستردن
سرفد	تو لانا	سُرفیدن	سِند	لینا	{ ستدن ستادن
سفتد	کھانسا	سُفتَن			
شنبد	پرونا	شَبیدن			
سوزد	سوراخ کرنا	سوختن	سجد	چراغ کی تی	سبیدن
	جلنا			بڑھانا	

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
شکو خد	<p style="text-align: center;">پھسلنا، گھوڑے کا الف ہونا^(۲)</p>	شکو خیدن	شاشد	ش	شاشیدن
شمرو	گنا	شمرو دن	شتا بد	مُوتنا ^(۱)	شتافتن
شمد	سو گھنا	شمیدن	شپلہ	دوڑنا	شتا بیدن
شکبید	صبر کرنا	شکبیدن	شپلید	نچوڑنا	شپلیدن
شورو	شور کرنا	شوریدن	شگا فد	پھشا، پھازنا	شگافتن
شنا سد	پچانا	شنا ختن	شُفقتہ	کھلنا	شکشتن
شنود	<p style="text-align: center;">سننا سو گھنا</p>	<p style="text-align: center;">شُنودن شُنتشن شَنیدن</p>	شکو ہد	بزرگی جانا	شکو ہیدن
شیود شیبد	فریفته ہونا	شیفتمن	شايد	لائق ہونا	شہستن
طلبد	ط	طلبدیدن	شو ود	ہونا	<p style="text-align: center;">شدن شودن شتت شو تیدن</p>
	مانگنا، بلا نا		شو یہ	دھونا	شکشتن
				ٹوٹنا، توڑنا	شکستن

(۱) پیشتاب کرنا۔

(۲) گھوڑے کا پچھلے پاؤں پر کھڑا ہونا۔

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
فروزو	روشن کرنا	فروختن		غ	
فرودا آید	اترنا	فروآمدن	غزوه	شور کرنا	غیریدن
فروماند	عاجزه نا	فروماندن	غیریود		غیریویدن
فیش رو	نچوڑنا	فیشاردن	غنوه	اوگھنا	غندون
فهد	سمجھنا	فہمیدن	غاظد	لڑھکنا	غلطیدن
فردو	بُھجنا، ٹھھڑنا	فُسردن	غزوه	شور کرنا	غیریدن
فلخ	کپاس او نتنا	فلخودن			
فلحاید		فلخیندن			
ك					
کاہد	گھٹنا	کاستن	فالڑو	جمائی لینا	فالڑیدن
کاود	کھودنا	کاہیدن	فرستاد	بھیجننا	فرستادن
	جبجو کرنا	کافتن	فرماید	فرماننا	فرمودن
		کاویدن	فروشد	پہپنا	فروختن
کُشايد	کھولنا	کُشادن		گھسننا	فرسودن
		کُشدون	فرساید	پرانا ہونا	فرسایدن
کَشَد	کھینچنا	کشیدن	فرازد	بلند کرنا	فراختن
کوشد	کوشش کرنا	کوشیدن			فراشتمن

مصدر	معنی مصدر	مصدر	مضارع	مصدر	معنی مصدر	مضارع	مصدر
گند	کهودنا	گراییدن	رغبت کرنا، میلان ہونا	گرویدن	متفق ہونا	گرد	گندن گندیدن
کارد	بونا	گریدن	مسلمان ہونا	گریستن	رونا	کاشتن کاریدن	گردن
کند	کرنا	گزاردان	ادا کرنا	گزیدن	قبول کرنا	کشیدن کفیدن	کشتن
کشد	مارڈانا	گزیدن	چن لینا	گفت	سیننا	کفیدن کفتن	کوفتن
کوبید	کوئنا	گستردن	بچھانا	گفتمن		کوبیدن	کوئیدن
گ		گسترانیدن	گہنا	گفتن			
-	کاف فارسی		سامانا	گنجیدن			
گداختن	گنا-پکھلنا		چھوڑنا	گذاشت		گدازیدن	گدازیدن
گدازیدن	گلانا-چکھلانا		گزرنما	گذشت		گزرا نامه	گزرا نامه
گزرا نامه	گزرا ناما		پکڑنا	گرفتن		گزرا ناما	گزرا ناما
گزرا ناما	گزرا ناما		بھائنا	گزیریختن		گزرا ناما	گزرا ناما
گزرا ناما	گزرا ناما			گزیدن			

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
میزد	موتنا	میختن میزیدن	گردد	پھرنا- ہونا	گردیدن گشتن
ماند	رہنا، مشابہ ہونا	ماندن	غزو	کاشنا، ڈنک مارنا	گزیدن
مکد	چوتنا	مکیدن	خوارد	کھانا	خواردن خستن
	ن		غسلد	توڑنا	غسلیدن
نازد	ناز کرنا، فخر کرنا	نازیدن	گمارد	مقرر کرنا	گماردن گماشتن
نادو	خم ہونا	نادیدن		ل	
تشیند	بیٹھنا	نشستن		کانپنا	لرزیدن
نگرد	دیکھنا	نگریستن	لرزد	پھسلنا	لغزیدن
نماید	و کھلانا، کرنا	نمودن	لغزد	گھشوں چلنا	لوکیدن
نور و د	لپیٹنا	نور و دیدن	لوکد		لیسیدن
نویسد	لکھنا	نو شتن	لیسد	چاٹنا	
نویسد	لپیٹنا	نو شتن بشتمن		م	مالیدن
نالد	رونا	نالیدن	مالد	ملنا	مردن

مضارع	معنی مصدر	مصدر	مضارع	معنی مصدر	مصدر
ورزد	و قول کرنا	ورزیدن	تکارد	لکھنا نقش کرنا	لگا شتن لگاریدن
وزد	ہوا کا چلننا	وزیدن	نکوہد	بُرا کہنا	نکوہیدن نوختن
پلڈ	چھوڑنا	ہشتمن ہلیدن	نوازد	نوازنا	نوشیدن نوازیدن
ہازد	دیکھنا	ہازیدن	نوشد	پینا	نہادون
یارڈ	ی	طاقت رکھنا	نہیزاد	رکھنا	نیازیدن نہفتن
یابد	پانا	یارستن یافتن	نہیوشد	چھپانا سننا	نیوشیدن

ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ

مصدر کے آخر کا نون گرانے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے: "آمدن" سے "آمد"، اور صیغہ واحد غائب کے آخر میں نون دال "ند" بڑھانے سے ماضی مطلق کا جمع غائب بن جاتا ہے۔

اور یائے معروف بڑھانے سے واحد حاضر بن جاتا ہے۔

اور یائے مجھول، اور دال مجھول بڑھانے سے جمع حاضر بن جاتا ہے۔

اور "میم" بڑھانے سے واحد متكلم اور "یائے مجہول" اور "میم" بڑھانے سے جمع متكلم بن جاتا ہے، جیسے: آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آدم، آمدیم۔

ماضی قریب بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر "ہ" اور "است" بڑھاد تو ماضی قریب کا واحد غائب بن جائیگا، جیسے: "آمدہ است"۔

اور "ہ" اور "اند" بڑھانے سے جمع غائب اور "ہ" اور "ای" بڑھانے سے واحد حاضر، اور "ہ" اور "اید" بڑھانے سے جمع حاضر، "ہ" اور "ام" بڑھانے سے واحد متكلم اور "ہ" اور "ایم" بڑھانے سے جمع متكلم بن جاتا ہے، جیسے: آمدہ است، آمدہ آند، آمدہ ای، آمدہ اید، آمدہ ام، آمدہ ایم۔

ماضی بعید بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں "ہ" اور "بود" بڑھانے سے ماضی بعید کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے: "آمدہ بود"۔ اور باقی صیغوں کے بنانے کے لئے ماضی بعید کے واحد غائب میں وہی کرو جو ماضی مطلق میں کیا تھا، جیسے: پروردہ بود، پروردہ بودند، پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم۔

ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے شروع میں "می" یا "ہمی" زیادہ کردو ماضی استمراری بن جائے گی، جیسے: می آمد، می آمدند، می آمدی، می آمدید، می آدم، می آمدیم۔

ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں "ہ" اور "باشد" زیادہ کر دو مااضی احتمالی کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے: "آمدہ باشد"۔

اور باقی صیغوں کے بنانے کے لئے "باشد" کے آخر سے وال دور کر کے وہی عمل کرو جو مااضی مطلق میں کیا تھا، جیسے: آمدہ باشد، آمدہ باشند، آمدہ باشی، آمدہ باشید، آمدہ باشم، آمدہ باشیم۔

ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے آخر میں یا یے مجھوں بڑھانے سے مااضی تمنائی بن جاتی ہے۔ اور مااضی تمنائی کے صرف تین صیغے آتے ہیں۔ واحد غائب، جمع غائب، واحد متكلّم، جیسے: آمدے، آمدندے، آمدے۔

تبیہ: جانا چاہئے کہ مااضی تمنائی کبھی مااضی استراری کے معنی میں بھی آتی ہے۔

سوالات

ذیل کے صیغے مع معنی بتائیں، نیز یہ بتائیں کہ کس طرح بننے۔

آموختم	آورده ایم	آویختہ بودی	استادہ ای	آروغیدی	اندوختہ باشید
می پرداختم	می خندیدی	می تافتند	می دیدہ اند	می باختہ بودیم	

مضارع کے باقی صیغوں کے بنانے کا قاعدہ

مضارع کے واحد غائب کے آخر میں جو دال آتی ہے اس کو دور کر کے ماضی مطلق جیسا عمل کرو، جیسے: گوید، گویند، گوئی، گوئید، گوئیم، گوئیم۔

حال بنانے کا قاعدہ

مضارع کے شروع میں لفظ "می" یا "ہی" زیادہ کر دو حال بن جائے گا، جیسے: می گوید، می گویند، می گوئی، می گوئید، می گوئیم، می گوئیم۔

مستقبل بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے واحد غائب کے شروع میں لفظ خواہد بڑھادو فعل مستقبل کا واحد غائب بن جائے گا، جیسے: "خواہد آمد"۔ اور لفظ خواہد کے آخر سے دال دور کر کے ماضی مطلق کی طرح عمل کرو، اور ماضی مطلق کے واحد غائب کو بدستور رکھو، باقی صیغہ بن جائیں گے، جیسے: خواہند آمد، خواہی آمد، خواہید آمد، خواہم آمد، خواہیم آمد۔

ثبت و منفی

ثبت: وہ فعل ہے کہ جس میں کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے: "وہ کھڑا ہوا" اور "اس نے پالا"۔

منفی: وہ فعل ہے کہ جس میں نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے، جیسے: "نہیں کھڑا ہوا"، "نہیں پالا"۔

تنبیہ: پہلے جس قدر صیغہ گزر چکے ہیں وہ سب ثبت کے تھے۔

فعل منفی بنانے کا قاعدہ

منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے شروع میں نون زیادہ کر دو، جیسے: "نگفت"۔ اور اگر فعل کے شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو "ی" سے بدل کر نون زیادہ کر دو، جیسے: "افروخت" سے "تیفروخت"۔

امر حاضر بنانے کا قاعدہ

مضارع کے واحد حاضر کے آخر سے "یاء" کو گرا دراو اور آخر کو ساکن کر دو، امر کا واحد حاضر بن جائے گا، جیسے: "پروری" سے "پرور"۔ اور امر حاضر کے باقی صینے بعینہ مضارع کے صینے ہیں۔ امر کے اول میں اکثر "ب" زیادہ ہوتی ہے، جیسے: "پرور"۔ اور اگر اول میں "الف" متحرک ہو تو اس کو "ی" سے بدل کر "ب" زیادہ کرتے ہیں، جیسے: "بیا"۔

نہی حاضر بنانے کا قاعدہ

نہی حاضر کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ امر حاضر کے شروع میں "میم" بڑھا دو، اور اگر شروع میں الف متحرک ہو تو اس کو "ی" سے بدل کر میم بڑھا دو، جیسے: مپرور، میا۔ نہی کے باقی صینے بعینہ مضارع منفی کے صینوں کے موافق ہیں، صرف ترجمہ کا فرق ہے۔ نہی کے ترجمہ میں "لازم" یا "چاہئے" کا لفظ زیادہ آئے گا، مثلا میا کا ترجمہ یوں کرو: چاہئے کہ نہ آئے تو ایک شخص، یا لازم ہے کہ نہ آئے تو ایک شخص۔

سوالات

ذیل کے صینے مع معنی بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کس طرح بنے؟

افروز م	گدازی	می بینی	نی گوئی	نی گزیدم
مگیر	مگدار	مکوشید	خواہی گریخت	خواہم نوشت
بیسیں	نکند	مزان		

اسم فاعل

اسم فاعل: وہ اسم ہے جو فعل سے نکلے، اور فعل کے کرنے والے کو بتائے۔

اسم فاعل بنانے کا قاعدہ

امر حاضر کے واحد حاضر پر لفظ "نہ" بڑھا دو، اسم فاعل بن جائے گا، جیسے: گوئی سے گوئندہ۔

اسم فاعل کی دو فتمیں ہیں، اول: قیاسی، دوم: سماعی۔

قیاسی: وہ ہے کہ جو طریقہ مذکورہ سے بنایا جائے۔ اور سماعی کے بنانے کا قاعدہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ امر کے واحد حاضر کے شروع میں کوئی اسم زیادہ کر دیا جائے، جیسے: "جہاں آفرین"۔

اسم مفعول

اسم مفعول: وہ اسم ہے جو فعل سے نکلے، اور جس پر فعل واقع ہوا ہے اسے بتائے، جیسے: "لایا ہوا"۔

اسم مفعول بنانے کا قاعدہ

ماضی مطلق کے واحد غائب پر "ہ" زیادہ کر دو اسم مفعول بن جائیگا، جیسے:

"آوردہ" -

اسم فاعل و اسم مفعول کی جمع بنانے کا قاعدہ

اسم فاعل اور اسم مفعول کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو "ہ" ہے اس کو کاف سے بدل کر الف نون بڑھادو، جیسے: "آورندہ" سے "آورندگان"، "آوردہ" سے "آوردگان"۔

فاعل و مفعول بہ

فاعل: کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے: "زید نے لکھا" اس میں "زید" فاعل ہے۔
مفعول: وہ ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جیسے: "مادر زید کو"، "زید" مفعول ہے۔

معروف و مجہول

معروف: وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے: "زید نے کہا"۔

مجہول: وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے: "کہا گیا ہے"۔

تبیہ: جس قدر صیغہ پہلے گزر چکے ہیں، وہ سب معروف کے تھے۔

فعل مجہول بنانے کا قاعدہ

جس فعل اور جس صیغہ کا مجہول بنانا چاہو وہی فعل اور وہی صیغہ مصدر "شدن" سے بنائ کر مااضی مطلق کے آخر میں "ہ" زیادہ کر کے اس کے بعد رکھ دو۔ ہر ایک

ماضی، مضارع، حال اور امر کا واحد غائب مجہول بطور مثال کے لکھا جاتا ہے:

آورده شد	آورده شدہ است	آورده شدہ بود	آورده می شد
آورده باشد	آورده شدے	آورده شود	آورده می شود
آورده خواهد شد	بیاورده شو	نیاورده شود	

سوالات

ذیل کے صینے مع معنی بتاؤ۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ صینے کس طرح بنے؟

افروزنہ	افروختہ	کشندہ	گرفتہ	بیپند
دیدہ	غریب پرور	نان پز	مشکل پسند	موتراش
خداترس	پرسیدہ شود	دیدہ می شود	آورده شدہ باشیم	پرسیدہ شود

باب دوم

نحو فارسی

مفرد و مرکب:

لفظ معنی دار کی دو قسمیں ہیں، اول: مفرد، دوم: مرکب۔

مفرد: وہ لفظ ہے جو آکیلا ہو، اور جس سے ایک معنی سمجھا جائے، جیسے: "زید"۔

مرکب: وہ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے مل کر بنتا ہو، جیسے: "زید کاغلام"۔

مرکب کی اقسام

مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ مفید۔ ۲۔ غیر مفید۔

مفید: وہ ہے کہ بات پوری ہو، جیسے: "زید ایستادہ است"۔

غیر مفید: وہ ہے کہ بات پوری نہ ہو، جیسے: "غلام زید"۔

سوالات

ذیل کے نقوشوں میں یہ بتاؤ کہ کون امرکب مفید ہے اور کون غیر مفید؟

چاقوئے من میرا چاقو۔	غلام بگر بگر کاغلام۔	اپ زید زید کا گھوڑا۔
لباس سپید سفید کپڑا۔	فردا به دہلی خواہم رفت کل میں دہلی جاؤں گا۔	پدر زید ایستادہ است زید کا باپ کھڑا ہے۔
آب ٹنک ٹھنڈا پانی۔		

مرکب غیر مفید کی اقسام

مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ مرکب اضافی ۲۔ مرکب توصیفی۔

مرکب اضافی: وہ ہے جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو۔

مضاف: وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے لگا کر رکھے۔

مضاف الیہ: وہ اسم ہے کہ اس سے کسی اسم کا لگاؤ ہو، جیسے: "غلام زید" میں "غلام" مضاف ہے، اور "زید" مضاف الیہ ہے۔

تبیہ: جاننا چاہئے کہ فارسی اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے: "زید کا غلام"۔

ایک قسم اضافت کی "اضافت مقلوبی" ہے۔ وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف سے پہلے آئے۔

مضاف کے آخر میں اگر "الف"، "واو" اور "ہ" نہ ہو تو اس کے آخر میں کسرہ ہوتا ہے، جیسے: "غلام زید"، "مسجدِ دہلی"۔ اور اگر "الف" یا "واو" ہو تو آخر میں یا یئے مجھوں آتی ہے، جیسے: "دانائے زمانہ"، "بوئے گل"۔ اور اگر "ہ" ہو تو اس کو ہمزہ سے بدل لیتے ہیں، جیسے: "آمونخیز زید"۔

مرکب توصیفی

وہ ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔

صفت: وہ ہے جس سے کسی اسم کی برائی یا بحلاں معلوم ہو۔

موصوف: وہ ہے جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، جیسے: "مردِ عالم" ، میں مرد موصوف اور عالم صفت ہے۔

تبیہ: جس طرح مضاف کے آخر کا حال اور پر لکھا گیا ہے، اسی طرح موصوف کا حال بھی سمجھنا چاہئے۔

سوالات

ان فقروں میں مضاف اور مضاف الیہ، موصوف اور صفت بتاؤ۔ اور موصوف اور مضاف کے آخر کی حالت کی وجہ بھی بیان کرو۔

آب خنک	کتاب بزر	نانِ گرم	غلامِ عمر
چاقوئے خالد	کتابِ خوش خط	مدرسہ دیوبند	قلعہ دہلی
کلاہِ خوب	آوازِ دل کش	کفِ دست	

جملہ کی فتمیں

مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ کی دو فتمیں ہیں: ۱۔ خبریہ ۲۔ انشائیہ۔

جملہ خبریہ: وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے: "زید غلام است"۔

جملہ انشائیہ: وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچایا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے: "بزن زیدرا"۔

جملہ خبریہ کی دو فتمیں ہیں: ۱۔ فعلیہ ۲۔ اسمیہ۔

جملہ اسمیہ: وہ ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے۔ ان میں سے ایک کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے کو خبر، جس کا حال بیان کیا جائے اس کو مبتدا، اور اس حال کو خبر کہتے ہیں، جیسے: "زید غلام است" میں "زید" مبتدا ہے۔ اور "غلام است" خبر ہے۔ اور مبتدا جملہ کے شروع میں آتا ہے۔

جملہ فعلیہ: وہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، جیسے "زید نشد" میں زید فاعل اور نشد فعل ہے۔

سوالات

ذیل کی مثالوں میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، مبتدا اور خبر، فعل اور فاعل بتاؤ۔

غلام خالد رامزن	غلام بگر آمده است	زید ذہین است
نان گرم است	چاقوئے تو خوب است	برادر عمر ایستادہ است
دروغ منگو	کتاب خوش خط است	آب خنک است

ضمائر

ضمیر: وہ اسم ہے کہ غائب یا حاضر یا متكلم کے لئے بنائی جائے۔ ضمیر کی بھی صیغوں کی طرح چھ قسمیں ہیں:

- ۱۔ واحد غائب ۲۔ جمع غائب ۳۔ واحد حاضر ۴۔ جمع حاضر
- ۵۔ واحد متكلم ۶۔ جمع متكلم۔

ضمیریں کئی قسم کی ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف فعل سے ملتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو

فعل اور اسم دونوں سے ملتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو فعل اور اسم سے علیحدہ آتی ہیں۔
 نقشہ ذیل سے ہر ایک کو معلوم کرو:

اقسام	واحد	جمع	واحد حاضر	واحد حاضر	واحد	جمع	واحد	جمع
فعل سے	سازد میں	"ند" جیسے	"م"	"ید"	"ی"	"یم"	متکلم	واحد
ملنے والی	ضمیر	سازند	جیسے	جیسے	جیسے	جیسے	متکلم	جمع
ضمیریں	پوشیدہ	سازی	سازی	سازید	سازم	سازیم	ملنے والی	واحد
ہے								
فعل اور اسم سے	جیسے	"شان"	"ت-ی"	"تاش"	"م"	"ماں"	جیسے	جیسے
ملنے والی	دادش،	"اوشاں"	"اوشاں"	"داودتاں"	"داودم"	"دادمال"	دادمال	دادم
ضمیریں	غلامش	دادشاں	غلامتہ	غلام	غلام	غلام	غلام	غلام
غلام اوشاں								
فعل سے	او	آنان	آنہا	تو	شا	من	ما	ملک آنیوالی
ضمیریں	آں	آنہا	آنہا	تو	من	ما		

سوالات

ذیل کی مثالوں میں ضمائر کی اقسام مع معنی و مثال بتاؤ؟

خامہ آت	پدرِ تاں	کتابش	قلمِ تراشش
شمرازد	برادرِ او	برادرِ من	فرزندِ شان

اسماے اشارہ

اسم اشارہ: وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے: "یہ" - فارسی کے اسمائے اشارہ دو ہیں: "ایں"، "آں" - "ایں" کی جمع "اینان" اور "آں" کی جمع "آنان" آتی ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کریں اس کو مثالِ الیہ کہتے ہیں۔

اسم موصول

اسم موصول: وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے بعد ایک جملہ نہ ہو وہ ناتمام رہتا ہے، اور اس جملہ کو صلہ کہتے ہیں، جیسے: "جو شخص کل آیا تھا وہ زید کا بھائی ہے" - اس مثال میں "جو شخص" اسم موصول ہے اور "کل آیا تھا" صلہ ہے۔

فارسی کے اسمائے موصول یہ ہیں: "هر کہ، ہر آنکہ، آنچہ، ہر آنچہ" -

اگر کسی اسم کے آخر میں یاۓ مجھوں لگادو اور اس کے بعد لفظ "کہ" "لاؤ، تو وہ بھی اسم موصول ہو جاتا ہے، جیسے: "مردیکہ" - اور جس اسم پر لفظ "آں" ہو اور اس کے بعد "کہ" ہو وہ بھی اسم موصول ہو جاتا ہے، جیسے: "آنکس کہ مرادر ہم داد آمد" -

منادی

منادی: اے کہتے ہیں جسے پکارا جائے، جیسے: "اے زید"۔ "زید" منادی ہے۔ فارسی میں حرفِ ندادو ہیں۔ "اے" اور "الف"۔ "اے" منادی کے شروع میں آتا ہے، جیسے: "اے زید"۔ اور "الف" منادی کے آخر میں آتا ہے، جیسے: "کریما" اے کریم۔

سوالات

ان مثالوں کا ترجمہ کرو۔ اور اسم اشارہ، اسم موصول، منادی، حرفِ ندا، اور مشارالیہ بتاؤ۔ ایس چیز است؟۔ آں درخت خشک شد۔ ہر کہ آمد عمارتِ نوساخت۔ طفیلک آمدہ بودہ نشستہ است۔ ہر کہ پیدا شد خواہد مرد۔ خداوند رحم بغفرما۔ اے کریم مغفرت کن۔ مظاہر العلوم مدرسہ عربیہ است در شہر سہارپور۔

فاعل و مفعول ما لم یسم فاعله و مفعول به

فاعل: وہ اسم ہے کہ جس سے فعل صادر ہو، یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ جیسے: "مرد زید" یا "زد زید" میں "زید" فاعل ہے۔

مفعول بہ: وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہو، جیسے: "زدم زید را" میں "زید" مفعول بہ ہے۔

مفعول مالم یسم فاعله: وہ مفعول ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے: "زدہ شد زید" مارا گیا زید۔ میں "زید" مفعول مالم یسم فاعله ہے۔

لازم اور متعددی

فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ لازم ۲۔ متعددی۔

لازم: وہ فعل ہے کہ اس میں مفعول بہ کی حاجت نہ ہو، جیسے: "نشت زید"۔

متعددی: وہ فعل ہے کہ اس میں مفعول بہ کی ضرورت ہو، جیسے: "زد زید عمر را"۔

سوالات

ان مثالوں میں فاعل، مفعول مالم یعنی فاعلہ، مفعول بہ، لازم اور متعددی بتاؤ۔ اور ہر مثال کے معنی بھی بیان کرو۔

زید رامزن	اے جان پدر خدائے عزوجل رابشناں
غلام زید مرد	سبق بخوان

شرط اور جزا

اگر دو جملوں میں سے ایک کو دوسرے کا سبب ٹھہرا�ا ہو تو جس کو سبب ٹھہرا�ا ہے اس کو شرط، اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔

حروفِ شرط

حروفِ شرط یہ ہیں: "اگر" "اگر" "ار" "جو" "چہ" "جو" "ہر کاہ" جس وقت۔۔۔ مثلاً:

اگر زید خواهد آمد من خواهم آمد۔

ظرف یا مفعول فیہ

ظرف: اس کو کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہو، اور اس کو مفعول فیہ بھی کہتے ہیں۔

ظرف کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ ظرفِ زمان ۲۔ ظرفِ مکان۔

ظرفِ زمان: وہ زمانہ ہے جس میں فعل واقع ہو، جیسے: "زد زید عمر را بروزِ جمعہ"۔ اس مثال میں "روزِ جمعہ" ظرفِ زمان ہے۔

ظرفِ مکان: وہ جگہ ہے جس میں فعل واقع ہو، جیسے: "زد زید عمر را در خانہ"۔ اس مثال میں "خانہ" ظرفِ مکان ہے۔

سوالات

امثلہ ذیل میں شرط و جزاء، اور ظرف کی تعین کرو۔

چون آمدی بنشیں	گزید خواہد آمد من خواهم آمد
ایں جا بنشیں	بشب کم خور

گنتی

اکائیاں:

یک	دو	سے	چہار	پنج	شش	ہفت	ہشت	نہ
----	----	----	------	-----	----	-----	-----	----

دہائیاں:

دہ	بست	سی	چهل	پنجاہ	شصت	ہفتاد	ہشتاد	نود	صد
----	-----	----	-----	-------	-----	-------	-------	-----	----

گیارہ سے اپنیں تک:

یازده	دوازدہ	سیزدہ	ہیزدہ	نوزدہ
-------	--------	-------	-------	-------

باقی اعداد کے بنانے کا قاعدہ: یہ ہے کہ جو عدد بنانا ہواں میں دیکھو کہ کتنی دہائیاں اور کتنی لاکھیاں ہیں، جس قدر لاکھیاں ہوں ان کو بعد میں رکھو، اور جس قدر دہائیاں ہوں ان کو شروع میں رکھو، اور نفع میں واولے آؤ۔ مثلاً چھیالیس کی فارسی بنانی ہے تو چھیالیس میں ۶ لاکھیاں ہیں، تو چھ کی فارسی "شش" ہے۔ اور چار دہائیاں ہیں۔ چار دہائی کا مجموعہ چالیس ہے۔ اور چالیس کو "چهل" کہتے ہیں، تو چھیالیس کی فارسی "چهل و شش" ہوئی۔

عطوف و معطوف و معطوف علیہ

کسی حکم میں بذریعہ واو وغیرہ کے ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ، یا ایک جملہ کو دوسرے جملہ کے ساتھ شریک کو "عطوف" کہتے ہیں، اور جس کو شریک کیا جائے اسے "معطوف" اور جس کے ساتھ شریک کیا جائے اسے "معطوف علیہ" کہتے ہیں، جیسے: "آمد زید و بکر" میں "زید" معطوف علیہ اور "بکر" معطوف ہے۔ اور معطوف علیہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف بعد میں۔

سوالات

ان مثالوں کا ترجیح کرو، اور معطوف علیہ و معطوف کو متعین کرو۔
 "پنجاہ و شش روپیہ زید و عمر و خالد را بدہ۔ چهل و پیچ کتاب امروز خریدہ ام۔ زید نشستہ است و عمر ایستادہ است"۔

حروفِ معانی

حروفِ معانی: وہ حرفاں ہیں جو معنی دار ہوں، ہر ایک حرفا کا معنی، موقع اور اس کی مثال لگھی جاتی ہے، اور ایسے حرفا دو قسم کے ہیں: ۱۔ مفردہ۔ ۲۔ مرکبہ۔

حروفِ مفردہ

مثال جیسے۔	موقع	معنی
	الف	
خدا یا۔ پادشاہ	اسماء کے آخر میں	برائے ندا
کناد	فعل مضارع میں	برائے دعاء
داننا۔ بینا	امر حاضر کے آخر میں	فاعل کے معنی میں
خوشایعنی بہت خوش	صفت کے آخر میں	برائے کثرت
گفتا بمعنی گفت۔	ماضی مطلق کے آخر میں	زادہ یعنی کچھ معنی نہیں۔
	ب	
رفت زید با عمر	اسماء کے شروع میں	برائے اتصال یعنی "ساتھ" کے معنی میں۔
رفت زید بمسجد	اسماء کے شروع میں	بمعنی در یعنی "نیچ" یا "میں" کے معنی میں۔
جانم بلب رسید	اسماء کے شروع میں	بمعنی بر یعنی اوپر۔
بلطوفِ کعبہ رفت	اسماء کے شروع میں	بمعنی برائے یعنی واسطے۔

مثال چیزے۔	موقع	معنی
بہاداں	اسماء کے شروع میں	معنی رالینی "کو" کے معنی میں۔
بجم گرفتار شدی	اسماء کے شروع میں	معنی سبب
بخدا	اسماء کے شروع میں	معنی قسم
ہنام خدا	اسماء کے شروع میں	معنی ابتداء یعنی شروع کرنے کے معنی میں۔
بہنگر فتم	اسماء کے شروع میں	معنی "طرف"
بگفت-بیا	فعل کے شروع میں	زادہ
ت		
از بار گست مرانم اے شاہ	آخر اسم	معنی خود یعنی اپنے۔
چ		
ایں طعام نخوردم چہ بے مزہ بود	جملہ کے شروع میں	برائے سبب
چہ گفتني؟ چہ خوردي؟	جملہ کے شروع میں	برائے سوال معنی کیا۔
ک		
بر درت آمد م کہ لطف کنی	دو جملوں کے درمیان	معنی تاکہ

مثال جیسے۔	موقع	معنی
نشستہ بودم کہ زید آمد کہ میگوئید؟ نیتی تو عالم کہ طفل مکتب ہستی عالم بہ کہ ایں جاہل	دو جملوں کے درمیان جملہ کے شروع میں دو جملوں کے درمیان اسم پر	بمعنی ناگاہ یعنی اچانک کے معنی میں۔ بمعنی کون بمعنی بلکہ بمعنی از یعنی "سے" کے معنی میں۔
گرد خراب کہ علم نیا موہت بنشیں کہ زید نشستہ است تھانوی-دہلوی	اسم پر	بمعنی ہر کہ یعنی جو شخص کہ۔ بمعنی کیونکہ برائے نسبت بمعنی "والا"۔
بخندگی-افرددگی غیریب نوازی کشتنی یعنی لائق کشتن۔	اسم فاعل قیاسی ^(۱) -اسم فاعل سامعی اور اسم مفعول کے آخر میں مصدر کے آخر میں	{ بمعنی مصدر لیاقت بمعنی لائق۔

(۱) اسم فاعل قیاسی اور اسم مفعول قیاسی میں "ہ" کو کاف سے بدل کر "ی" زیادہ کرتے ہیں۔

مثال جیسے۔	موقع	معنی
	یاے مجھوں	
مردے اس یاہ کو یاے وحدت بھی کہتے ہیں۔	اسم کے آخر میں	معنی ایک

حروفِ مرکبہ

مثال	معنی	اردو ترجمہ	حرف
از صبح حاضرم۔ از دہلی آمدم گرفتم از دراهم	برائے ابتداء معنی بعض	سے۔	از
از بہر خدا	زالد بے معنی۔		
رفتم در مسجد	ظرفیت	نقی میں۔	در
در ساخت	زالد بر افعال		
بر بام رفتتم	معنی بالا اوپر۔	پر۔	بر
بر انداخت	زالد		
زوم زیدرا	علامتِ مفعول	کو۔	را
خدارا بجتنا	برائے۔	کیلئے۔	
آرے زید آمده است	ہاں		آرے
بلے عمر عالم است	ہاں		بلے

حرف	اردو ترجمہ	معنی	مثال
تا	تک۔	برائے انہذا	از صبح تا شام
چوں	جب تک	تا کہ	تاجہاں باشی تو باشی بیاتا خدمت کنم
چو	ہرگز	بمعنی اگر	زصاحب غرض تا سخن نشنوی
دان	سوال	بمعنی مانند	چوں آمدی بخشین شب چوں گذشت؟
آل	ظرفیت	جمع کے لئے	زید چوں شیر ہست زید چوں شیر ہست قلم دان مردمان - دوستاں

فہرست مضمائیں

باب اول

در صرف فارسی

صفحہ	موضوع
۳	کلمہ کی اقسام.....
۳	زمانے.....
۵	فعل کی اقسام.....
۷	فارسی کے اہم مصادر اور مضارع.....
۱۹	ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ.....
۲۰	ماضی قریب بنانے کا قاعدہ.....
۲۰	ماضی بعید بنانے کا قاعدہ.....
۲۰	ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ.....
۲۱	ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ.....
۲۱	ماضی ترتیبی بنانے کا قاعدہ.....
۲۲	مضارع کے باقی صیغوں کے بنانے کا قاعدہ.....
۲۲	حال بنانے کا قاعدہ.....
۲۲	مستقبل بنانے کا قاعدہ.....
۲۲	ثبت و متنی.....
۲۳	فعل منفی بنانے کا قاعدہ.....

صفحہ	موضوع
۲۳	امر حاضر بنانے کا قاعدہ.....
۲۳	نہیں حاضر بنانے کا قاعدہ.....
۲۳	اسم فاعل.....
۲۳	اسم فاعل بنانے کا قاعدہ.....
۲۳	اسم مفعول.....
۲۵	اسم مفعول بنانے کا قاعدہ.....
۲۵	اسم فاعل و اسم مفعول کی جمع بنانے کا قاعدہ.....
۲۵	فاعل و مفعول بہ.....
۲۵	معروف و مجهول.....
۲۵	فعل مجهول بنانے کا قاعدہ.....

باب دوم
نحو فارسی

۲۷	مفرد و مرکب.....
۲۷	مرکب کی اقسام.....
۲۸	مرکب غیر مفید کی اقسام.....
۲۸	مرکب تو صیغی.....
۲۹	جملہ کی قسمیں.....
۳۰	ضمائر.....
۳۲	اسماںے اشارہ.....

صفحہ	موضوع
۳۲	اسم موصول.....
۳۳	منادی.....
۳۳	فاعل و مفعول مالم یسم فاعلہ و مفعول بہ.....
۳۴	لازم اور متعددی.....
۳۴	شرط اور جزا.....
۳۴	حروفِ شرط.....
۳۵	ظرف یا مفعول فیہ.....
۳۵	مکنتی.....
۳۶	عطف و معطوف و معطوف علیہ.....
۳۷	حروفِ معانی.....
۳۷	حروفِ مفردہ.....
۴۰	حروفِ مرکبہ.....

یادداشت

یادداشت

مكتبة البشرى

المطبوعة

ملونة كرتون مقوى		ملونة مجلدة	
السراجي	شرح عقود رسم المفتى	(٧ مجلدات)	الصحيح لمسلم
الفوز الكبير	متن العقيدة الطحاوية	(٢ مجلدين)	الموطأ للإمام محمد
تلخيص المفتاح	المرقاة	(٣ مجلدات)	الموطأ للإمام مالك
دروس البلاغة	زاد الطالبين	(٨ مجلدات)	الهداية
الكافية	عوامل النحو	(٤ مجلدات)	مشكاة المصايح
تعليم المتعلم	هداية النحو	(٣ مجلدات)	تفسير الجلالين
مبادئ الأصول	إيساغوجي	(٢ مجلدين)	مختصر المعانى
مبادئ الفلسفة	شرح مائة عامل	(٢ مجلدين)	نور الأنوار
هداية الحكمة	المعلمات السبع	(٣ مجلدات)	كنز الدقائق
هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين)		تفسير البيضاوى	البيان في علوم القرآن
متن الكافي مع مختصر الشافى		الحسami	المسند للإمام الأعظم
ستطبع قريباً بعون الله تعالى		شرح العقائد	الهديه السعيدية
ملونة مجلدة / كرتون مقوى		القطبي	أصول الشاشى
الجامع للبخاري	الصحيح للبخاري	نفحة العرب	تيسير مصطلح الحديث
	شرح الجامى	مختصر القدوسي	شرح التهذيب
التسهيل الضروري	التسهيل الضروري	نور الإيضاح	تعريب علم الصيحة
		ديوان الحماسة	البلاغة الواضحة
		المقامات الحريرية	ديوان المتنى
		آثار السنن	النحو الواضح (النسخة الثانية)
		شرح نخبة الفكر	رياض الصالحين (مجلدة غير ملونة)

Books in English

- Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
- Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
- Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
- Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
- Al-Hizb-ul-Azam (Small). (Card Cover)
- Secret of Salah

Other Languages

- Riyad Us Salheen (Spanish) (H. Binding)
- Fazail-e-Aamal (German)

To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)

مکتبۃ البشیر

طبع شدہ

طبع شدہ		رُنگین مجلد	رُنگین کارڈ کور	حیاتِ اسلامیں
کربیا	فصلیٰ اکبری	تفصیر عثمانی (جلد)		
پندتامہ	میرزاں و منشعب	معلم المجاج		
بیچ سورۃ	نمایِ مدل	فضائل حج		خطبات الاحکام لجماعات العام
سورۃ نیس	نورانی قaudde (چھوٹا / بڑا)	تعلیم الاسلام (کھل)		الحزب العظیم (بیہقی ترتیب پر کھل)
عمر پارہ درسی	بغدادی قaudde (چھوٹا / بڑا)	حسن حصین		الحزب العظیم (بیہقی ترتیب پر کھل)
آسان نماز	رحانی قaudde (چھوٹا / بڑا)			لسان القرآن (اول، دوم، سوم)
نمایِ حنفی	تیسیرالمبتدی			خصال نبوی شرح شہل ترمذی
مسنون و عائیں	منزل			بہشتی زیور (تین حصے)
خلفاء راشدین	الاعتباہات المفیدۃ			
امت مسلمی کی ماکیں	سیرت سیداًکوئینیں			
فضائل امت محمدیہ	رسول اللہ ﷺ کی صحیحیں			
علیکم سنتی	حلیل اور بہانے			
اکرام اسلامیین مع حقوق العباد کی فکر کیجیے				
کارڈ کور / مجلد				
فضائل اعمال	اکرام مسلم	آداب المعاشرت		حیاتِ اسلامیں
منتخب احادیث	مقباح لسان القرآن	زاد السعید		تعلیم الدین
	(اول، دوم، سوم)	جزاء الاعمال		خیر الاصول فی حدیث الرسول
زیر طبع		روضۃ الادب		الحمدہ (چھنگانگا) (جدید ایش)
فضائل تقات		آسان اصول فقة		الحزب العظیم (بیہقی ترتیب پر، بھی)
فضائل صدقات		معین الفلسفہ		الحزب العظیم (بیہقی ترتیب پر، بھی)
آئینہ نماز		معین الانصول		عربی زبان کا آسان قaudde
فضائل علم		تیسیر الملنط		فارسی زبان کا آسان قaudde
ابن القاسم		تاریخ اسلام		علم الصرف (اولین، آخرین)
بیان القرآن (کھل)		بہشتی کوہر		تسهیل المبتدی
کھل قرآن حافظی ۱۵ اسٹری		فواہد مکیہ		جوامع الکلم مع چھل ادعیہ مسنونہ
		علم الخو		عربی کامعلم (اول، دوم، سوم، چارم)
		جمال القرآن		عربی صفوۃ المصادر
		خوبیہ		صرف میر
		تعلیم الحقائق		تیسیر الابواب
		سیر الصحاحت		نام حق